



Holmlia سکول کیلئے نظم و ضبط کے مقامی اصول

بلدیہ اوسلو نے نظم و ضبط کے اجتماعی اصول منظور کر رکھے ہیں جو اوسلو کے تمام سکولوں کیلئے واجب ہیں۔ ان اصولوں سے انحراف ممکن نہیں ہے اور یہ Holmlia سکول کیلئے بھی واجب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکول کے نظم و ضبط کے مقامی اصول اور کلاس روم کے اصول بھی پائے جاتے ہیں۔

نظم و ضبط کے اصولوں کا اطلاق اس دوران ہوتا ہے جب سکول طالبعلموں کیلئے ذمہ دار ہو، سکول کے راستے میں بھی اور سکول کے علاقے سے باہر بھی۔ اصولوں کا اطلاق طالبعلموں کے فارغ وقت پر بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی حرکات سے سکول کے روزمرہ معمول پر اثر پڑتا ہو۔ مثال کے طور پر سائبر بلنگ (ڈرانا یا بے عزت کرنا)/تنگ کرنا۔

ہم Holmlia سکول کے طالبعلم کے طور پر آپ سے توقع کرتے ہیں کہ:

- آپ شائستہ رویہ رکھیں اور اپنے ساتھی طالبعلموں اور سکول کے عملے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں
- آپ پیریڈ میں وقت پر پہنچیں اور بغیر جائز وجہ کے غیر حاضر نہ ہوں
- آپ ہر پیریڈ کیلئے ضروری چیزیں ساتھ لائیں اور اپنا کیا ہوا کام/ہوم ورک مقررہ وقت پر پیش کریں
- آپ سکول کی ملکیتی چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں
- بلنگ (ڈرانا یا بے عزت کرنا) اور تنگ کرنے کے واقعات نہ ہوں
- آپ تفریح کے وقفے میں ساتھی طالبعلموں کا لحاظ رکھیں اور نقصان پہنچانے والے کھیل مت کھیلیں جیسے سنو بالز پھینکنا، گیند سے کھیلنا اور سکوٹر (sparkesykkel) چلانا
- آپ ساتھی طالبعلموں یا کسی دوسرے شخص کو دھمکی نہ دیں اور نہ ہی ماریں
- آپ خطرناک چیزیں ساتھ نہ لائیں جن سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہو

یہ اصول توڑنے پر سکول ایسی سزائیں دے سکتا ہے جو بلدیہ اوسلو کے نظم و ضبط کے اصولوں کے تحت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصول توڑنے پر سکول اپنے اصولوں کے تحت بھی سزائیں دے سکتا ہے:

- سکول شروع ہونے سے پہلے یا چھٹی کے بعد حاضری
- طالبعلم کو اپنے والدین کو فون کرنا ہو گا
- طالبعلم کو تفریح کا وقفہ باقی طالبعلموں سے الگ وقت پر یا سکول کے عملے کے ساتھ ملے گا



کلاس روم کیلئے Holmlia سکول کے اصول:

Holmlia سکول میں پڑھائی کے سلسلے میں ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ:

- آپ پیریڈ میں وقت پر پہنچیں
- آپ استاد کے پڑھانے ہوئے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں
- آپ پیریڈ شروع ہونے پر ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر استاد کو سلام کہیں
- آپ اجازت کے بغیر کلاس روم سے نہ نکلیں
- آپ کلاس روم میں جانے سے پہلے سر سے ایسی ٹوپی یا کپڑا اتار لیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے
- آپ پڑھائی کے اوقات میں موبائل فون بند رکھیں اور اسے بیگ کے اندر رکھیں۔ طالب علم جو قیمتی چیزیں ساتھ لاتے ہیں، ان کا نقصان پورا کرنے کیلئے سکول ذمہ دار نہیں ہے
- آپ کیلئے پیریڈ کے دوران کھانا، پینا یا میوزک سننا منع ہے، سوائے اس کے کہ استاد نے خاص طور پر یہ اجازت دی ہو